

## FA Part 2 Home Economics Full Book Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	روز مرہ کھاتی جائے والے خوراک میں چند غذائی ایسی ہوتی ہیں جنہیں کھلایا جسکتا ہے۔	A. سخت حالت میں B. کجی حالت میں C. نرم حالت میں D. ٹھوس حالت میں
2	ایسے بردے جن میں کولیسترون کم ہوتا ہے کہلاتا ہے۔	A. Black meat B. White Meat C. الف اور ب دونوں D. کوئی نہیں۔
3	گندم کا انعام کہلاتا ہے۔	A. اپنڈو سیرم B. اناج C. جرم D. کوئی نہیں۔
4	خربوزہ پہل سے	A. گرمیوں کا B. سریبوں کا C. بہار کا D. کوئی بھی نہیں۔
5	لیموں اور ٹماٹر پس۔	A. حیاتین الف. B. حیاتین ب C. حیاتین ج D. کوئی نہیں۔
6	وٹامن اے کی پہترین مثال ہے۔	A. سبز پتوں و لای اور بیلی ترکاریل B. پیاز ٹماٹر اور پالک C. گوبیہی، نلخاج، کدو D. کوئی نہیں۔
7	پرانی، بلسی اور گلی سڑی خوراک نہ صرف کس کے زیاد کا باعث ہوتی ہے۔	A. تکلیف کا B. وقت کا C. پریشانی کا D. روپے پسے کا
8	کھانے پسے کی جو چیز بھی خریدی جائے اس کا ہونا بہلیت ضروری ہے۔	A. صاف ستھرا اور تازہ ہونا B. مہنگا ہونا C. دھلاپور ہونا D. سستا ہونا
9	خوراک کی خریداری کے لئے سب سے ابم ترین بات کیا ہے۔	A. غذائیت کے بارے میں علم ہونا B. کوئی ایسی بارے میں علم ہونا C. نفع کے بارے میں علم ہونا D. نقصان کے بارے میں علم ہونا
10	خریداری کے عمل کا انحصار کس پر ہوتا ہے۔	A. غربت پر B. مالی استطاعت پر C. دولت پر D. وقت پر
11	رقم کے عوض کسی بھی چیز کا حصول کیا کہلاتا ہے۔	A. خریداری کا عمل B. نقصان کا عمل C. خرید و فروخت D. منافع کا عمل
12	US RDA مخفف ہے۔	A. U.S. Recommended Daily allowance B. U.S. Russian Daily allowance C. U.S American Daily Allowance D. کوئی نہیں۔
13	شہری علاقوں میں فہرست طعام ہوتا ہے۔ دن میں	A. دو وقت B. تین وقت C. ایک وقت D. چار وقت
14	کھانوں کے درمیان کم از کم کتنے گھنٹوں کا وقہ ہونا جائے۔	A. دو گھنٹوں کا B. چار گھنٹوں کا C. تین گھنٹوں کا D. پانچ گھنٹوں کا
15	خوراک اگر پسند کے مطابق ہو تو کس پر اچھا انداز ہوتا ہے۔	A. نظام دوران خون پر B. عروق یا ضمیمہ C. نظام اخراج

